

أَيَّاتُهَا ٢٠ (٤٨) سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ (٨٠) رُكُوعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ١ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ٢ الَّذِي هُمْ فِيهِ

مُخْتَلِفُونَ ٣ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ أَلَمْ نَجْعَلِ

الْأَرْضَ مِهْدًا ٦ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ٧ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٨

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ٩ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ١٠ وَجَعَلْنَا

النَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٢ وَجَعَلْنَا

سِرَاجًا وَهَّاجًا ١٣ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ١٤

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٥ وَجَدَّتِ الْفَافَا ١٦ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ

كَانَ مِيقَاتًا ١٧ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١٨ وَ

فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ١٩ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ

سَرَابًا ٢٠ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢١ لِلطَّاغِينَ مَابًا ٢٢

لِئْتِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٣ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ٢٤

الْأَحْمِيماً وَغَسَّاقًا ۝ جَزَاءً وَّفَاقًا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ

حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

كِتَابًا ۝ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

مَفَازًا ۝ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝ وَكَاسًا

دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۝ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً

حِسَابًا ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ

مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَالِيغَةُ صَفًّا ۝ لَا يَسْمَعُونَ

إِلَّا مَن أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝ فَمَن

شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَابًا ۝ إِنَّا نُنذِرُكُم عَذَابًا قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَنْظُرُ

الْهَرَّةُ مَا قَدَّ مَتَّ يَدُهُ وَيَقُولُ الْكُفْرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا ۝

رَايَاتُهَا ٢٦ (٤٩) سُورَةُ الزُّرْعَاتِ مَكِّيَّةٌ (٨١) رُكُوعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالزُّرْعَاتِ غَرْقًا ۝ وَالنُّشُطِ نَشْطًا ۝ وَالسُّبْحِ

سَبَّحًا ٣ فَالسَّبِيحَتِ سَبَقًا ٣ فَالْمُدْبِرَتِ أَمْرًا ٥ يَوْمَ

تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ ٦ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ٤ قُلُوبُ

يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ٨ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ٩ يَقُولُونَ

ءَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ١٠ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ١١

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٢ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ١٣ هَلْ اَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٥

اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦ اِذْ هَبَّ اِلَى

فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ١٧ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزُكِّي ١٨

وَاهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ١٩ فَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرَى ٢٠

فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢١ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى ٢٢ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٣

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى ٢٤ فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ

وَ الْاَوَّلَى ٢٥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشَى ٢٦

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ٢٧ بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَمَكَهَا

فَسَوْمَهَا ٢٨ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ٢٩ وَالْأَرْضَ بَعْدَ

ذَلِكَ دَحَاهَا ٣٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣١ وَالْجِبَالَ

أَرْسَهَا ٣٢ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ

الْكُبْرَى ٣٤ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٥ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ

لِئَن يَرَى ٣٦ فَمَا مِنْ طَغَى ٣٧ وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ٣٨ فَإِنَّ

الْجَحِيمَ هِيَ الْبَاوِي ٣٩ وَأَمَا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٤٠ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَاوِي ٤١ يَسْأَلُونَكَ

عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٤٢ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرهَا ٤٣

إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ٤٤ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا ٤٥

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ٤٦

احتياط

٤٦

أَيَّانَهَا ٢٢ (٨٠) سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ (٢٢) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ

يَزِّي ٣ أَوْ يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ٤ أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ٥
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزِيَّ ٧ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ
يَسْعَى ٨ وَهُوَ يَخْشَى ٩ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ١٠ كَلَّا إِنَّهَا
تَذِكْرَةٌ ١١ فَبِمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ١٢ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ١٣ مَرْفُوعَةٍ
مُّطَهَّرَةٍ ١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ١٦ قَتَلَ الْإِنْسَانَ
مَا أَكْفَرَهُ ١٧ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ١٨ مِنْ نُّطْفَةٍ ١٩
خَلَقَهُ فَقَدَّرَاهُ ٢٠ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ٢١ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢٢
ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ٢٣ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَاقُضْ مَا أَمَرَهُ ٢٤ فَلْيَنْظُرِ
الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ ٢٥ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٦ ثُمَّ شَقَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ٢٧ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٨ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ٢٩
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٣٠ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ٣١ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ٣٢
مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ٣٤
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٥ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٦ وَصَاحِبَتِهِ

وقف لازم

وَبَيْنِيهِ ٣٦ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمِيذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ٣٥ ط

وَجُوهٌ يَوْمِيذٍ مَّسْفِرَةٌ ٣٨ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ٣٩ ج

وَوُجُوهٌ يَوْمِيذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٣٠ تَرَهَقَهَا قَتَرَةٌ ٣١ ط

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ٤ ع

الْيَاثِمَاتُ ٢٩ (٨١) سُورَةُ التَّكْوِينِ بِمَكِّيَّةٍ (٤) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ٢ وَإِذَا الْجِبَالُ

سُيِّرَتْ ٣ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ٤ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٥

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ٧ وَإِذَا

الْبُيُوتُ كُفِّرَتْ ٨ وَإِذَا الْبُيُوتُ تَبَعَتْ ٩ وَإِذَا الْبُيُوتُ

نُشِرَتْ ١٠ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ١١ وَإِذَا الْجَبَلُ انْحَدَرَتْ ١٢

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ١٣ عَلَيَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ١٤ فَلَا

أَقِيمُ بِالْخَيْسِ ١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ١٦ وَالْيَلِيلُ إِذَا عَسَّسَتْ ١٧

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۙ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۙ ذِي
 قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۙ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۙ ط
 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُنُونٍ ۙ ۙ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۙ ع
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۙ ع وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
 رَّجِيمٍ ۙ ۙ فَايْنَ تَذْهَبُونَ ۙ ط إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۙ خ
 لَيْنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۙ ط وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۙ ع

(١٩ آيَاتُهَا) (٨٢) سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ (٨٢) رُكُوعُهَا ١
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ ۙ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ ۙ وَإِذَا الْبِحَارُ
 فُجِّرَتْ ۙ ۙ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ ۙ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
 وَأَخَّرَتْ ۙ ۙ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ ۙ
 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ۙ ۙ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ

رَبِّكَ ٨ كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ ٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

لِحَفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١٢

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ١٥ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ١٦ وَمَا

أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ١٨

يَوْمَ لَا تَنبِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ١٩ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ٢٠

١٩

أَيَاتُهَا ٣٦ (٨٣) سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ (٨٦) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٦ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ٧ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ٨ كِتَابٌ

مَرْقُومٍ ٩ وَيَلُومِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ

الَّذِينَ ١١ وَمَا يُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتْلَىٰ

عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بَلْ سَوَّيْنَا

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٤ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ

يَوْمِذٍ لَّحَجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ

يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ١٩ كِتَابٌ

مَرْقُومٌ ٢٠ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ٢٢

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ٢٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ

النَّعِيمِ ٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ٢٥ خِتْمُهُ مِسْكَ ٢٦ وَفِي

ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْتَنَّافِسُونَ ٢٧ وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ٢٨

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٢٩ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ

الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٣١

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا
 إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ
 يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ تُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

أَيَّامَهَا ٢٥ ﴿٨٢﴾ سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (٨٣) رُوعَهَا ١
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا
 الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذْنَتْ
 لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
 كَدًّا فَمَلِّقِيهِ ﴿٦﴾ فَمَا مَن أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾
 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَن أُوْتِيَ كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ
 يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ

معاني الكلمات

مَسْرُورًا ١٣ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ١٤ بَلَى ١٥ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ

بِهِ بَصِيرًا ١٦ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ١٧ وَاللَّيْلِ وَمَا

وَسَقَى ١٨ وَالْقَبْرِ إِذَا اتَّسَقَ ١٩ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ٢٠

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢١ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

لَا يَسْجُدُونَ ٢٢ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ٢٣ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٤ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٥ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٢٦

السجدة ١٣

١٥٥

أَيَاتُهَا ٢٢ (٨٥) سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ (٢٤) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ٢ وَشَاهِدِ

وَمَشْهُودِ ٣ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ٤ النَّارِ ذَاتِ

الْوَقُودِ ٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ٦ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ

بِالْيَوْمَيْنِ ٧ شُهُودٌ ٨ وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ

منزل ٤

829

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝٨ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٩ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
 الْحَرِيقِ ۝١٠ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝١١ إِنَّ
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢ إِنَّهُ هُوَ يَدِيٌّ وَيُعِيدُ ۝١٣ وَهُوَ
 الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ الْحَمِيدُ ۝١٥ فَعَالٌ لَبَّابٌ
 يُرِيدُ ۝١٦ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝١٨
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝١٩ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
 مُحِيطٌ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝٢١ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝٢٢

(٨٦) سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (٣٦) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النِّجْمُ

الثَّاقِبُ ٣) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٤) فَلْيَنْظُرِ
 الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ٦) يَخْرُجُ مِنْ
 بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ٧) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ٨)
 يَوْمَ تَبْيَأُ السَّرَائِرُ ٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ١٠) وَالسَّمَاءِ
 ذَاتِ الرَّجْعِ ١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٢) إِنَّهُ لَقَوْلُ
 فَصْلٍ ١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ١٤) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٥)
 وَآكِيدُ كَيْدًا ١٦) فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا ١٧)

١٧)

آيَاتُهَا ١٩ (٨٤) سُورَةُ الْأَعْلَى كَثِيرًا (٨) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ٢) وَالَّذِي
 قَدَّرَ فَهَدَى ٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْبُرْعَى ٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً
 أَحْوَى ٥) سُنُقِرُكَ فَلَ تَسْسَى ٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ٧) إِنَّهُ
 يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ٨) وَيُنِيرُكَ لِلْيُسْرَى ٩) فَذَكِّرْ

إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ۙ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ۙ وَ
 يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۙ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ۙ ثُمَّ
 لَا يَبُوءُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۙ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَى ۙ وَ
 ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۙ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۙ
 وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۙ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ
 الْأُولَى ۙ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۙ

آيَاتُهَا ٢٦ (٨٨) سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ (٦٨) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۙ وَجُوهُ يَوْمٍ ذَا شَعَةِ ۙ
 عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ۙ تُسْقَى مِنْ
 عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۙ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ۙ لَا يُسْمِنُ
 وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۙ وَجُوهُ يَوْمٍ ذَا نَعْمَةٍ ۙ
 لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۙ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ لَا تَسْمَعُ فِيهَا

وقف الازهر

لَاغِيَةً^ط فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ^{١١} فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ^{١٢}وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ^{١٣} وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ^{١٤} وَزَرَّابِيُّمَبْتُوثَةٌ^{١٥} أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ^{١٦} ^{وقفة}وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ^{١٧} وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَنُصِبَتْ^{١٨} وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ^{١٩} فَذَكِّرْ^{٢٠} ^{وقفة} إِنَّمَاأَنْتَ مُذَكِّرٌ^{٢١} لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ^{٢٢} إِلَّا مَنْتَوَلَّى وَكَفَرَ^{٢٣} فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ^{٢٤}إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ^{٢٥} ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ^{٢٦}

الاصحاح

أَيَّامَهَا ٣٠	(٨٩) سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (١٠)	رُكُوعُهَا ١
----------------	--	--------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ^١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ^٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ^٣ وَاللَّيْلِ إِذَايَسَّرَ^٤ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ^٥ أَلَمْ تَرَ كَيْفَفَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ^٦ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ^٧ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ

مِثْلَهَا

منزل ٤

مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝^٨ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝^٩

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝^{١٠} الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝^{١١}

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفُسَادَ ۝^{١٢} فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

عَذَابٍ ۝^{١٣} إِنَّ رَبَّكَ لِبَالِرْصَادٍ ۝^{١٤} فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا

مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝^{١٥} فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝^{١٥}

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝^{١٦} فَيَقُولُ رَبِّي

أَهَانَنِ ۝^{١٧} كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝^{١٨} وَلَا تَحْضُونَ

عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ ۝^{١٩} وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّيًّا ۝^{١٩}

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝^{٢٠} كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

دَكًّا ۝^{٢١} وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝^{٢٢} وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ

بِجَهَنَّمَ ۝^{٢٣} فَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝^{٢٣}

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝^{٢٤} فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ

عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝^{٢٥} وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝^{٢٦} يَا أَيَّتُهَا

النَّفْسَ الْبُطِينَةَ ﴿١٤﴾ ارجعني الى ربك راضية مرضية ﴿٢٨﴾

فادخلي في عبادي ﴿٢٩﴾ وادخلي جنتي ﴿٣٠﴾

سورة البلد مكية (٣٥) آياتها ٢٠
 روعها ١
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾

لَا اُقِیْمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَ

وَالِدٍ وَّمَا وُلَدٌ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾

اِحْسَبُ اَنْ لَّنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾ یَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَا لَا

لُبْدًا ﴿٦﴾ اِحْسَبُ اَنْ لَّمْ یَرَهُ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ

عَیْنَیْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَیْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَیْنَهُ النَّجْدَیْنِ ﴿١٠﴾

فَلَا اقْتَحَمَ الْعُقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا اَدْرٰکَ مَا الْعُقَبَةُ ﴿١٢﴾

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعَمُ فِیْ یَوْمِ ذِیْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ یَتِیْمًا

ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مَسْكِیْنًا ذَا مَثْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

اُولٰٓئِكَ

منزل

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا

هُم أَصْحَابُ الشُّئْبَةِ ۖ عَلَيْهِم نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۖ

آيَاتُهَا ١٥ (٩١) سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (٢٦) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ ١ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝ ٢ وَالنَّهَارِ

إِذَا جَلَّهَا ۝ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ ٤ وَالسَّيِّءِ وَمَا

بَنَدَهَا ۝ ٥ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝ ٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ ٧

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ ٩

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ ١٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ ١١

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ ١٢ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ

اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ ١٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝ ١٤ فَدَمْدَمَ

عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ ١٥ وَلَا يَخَافُ

عُقُوبَهَا ۝ ١٥



رُوعَهَا ١	(٩٣) سُورَةُ الصُّحْحِي مَكِّيَّةٌ (١١)	آيَاتُهَا ١١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
٣	وَالصُّحْحِي ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣	
	وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ	
	فَتَرْضَى ٥ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا	
	فَهَدَى ٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا	
	تَقَهَّرْ ٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ١١	
رُوعَهَا ١	(٩٢) سُورَةُ الْإِنْشِرَاحِ مَكِّيَّةٌ (١٢)	آيَاتُهَا ٨
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
٢	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ٢	
	الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٤ فَإِنَّ	
	مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦ فَإِذَا	
	فَرَّغْتَ فَاَنْصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ٨	

رُكُوعُهَا ١	(٩٥) سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ (٢٨)	آيَاتُهَا ٨
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ١ وَطُورِ سِينِينَ ٢ وَهَذَا الْبَلَدِ		
الْأَمِينِ ٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٤		
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا		
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ		
بَعْدُ بِالذِّينِ ٧ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ٨		
رُكُوعُهَا ١	(٩٦) سُورَةُ أَلْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ (١١)	آيَاتُهَا ١٩
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ		
عَلَقٍ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤		
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى ٦		
إِنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ٨ أَرَأَيْتَ الَّذِي		

١٧٦

يَنْهَى

منزل ٤

839

يَنْهَى ٩ عِبْدًا إِذَا صَلَّى ١٠ أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى

الْهُدَى ١١ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ١٢ أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى ١٣

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ١٤ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٥ لَنَسْفَعًا

بِالنَّاصِيَةِ ١٥ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١٦ فَلَيدُعُ نَارِيَهُ ١٧

سَدْعُ الزَّبَانِيَةِ ١٨ كَلَّا ١٩ لَا تَطَعُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ٢٠

أَيَاتُهَا ٥ (٩٤) سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (٢٥) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٢

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ٣ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ

فِيهَا يَأْذِنُ رَوْحٌ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ٤ سَلَامٌ تَهَيَّئْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥

أَيَاتُهَا ٨ (٩٨) سُورَةُ الْبَيْتِ مَدَنِيَّةٌ (١٠٠) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ

حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ ﴿٢﴾
 فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۙ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۙ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
 لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۙ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۙ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۙ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ ۙ ﴿٨﴾

آيَاتُهَا ٨

(٩٩) سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ (٩٣)

رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

أَثْقَالَهَا

منزل

841

أَثْقَالَهَا^٢ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا^٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
 أَخْبَارَهَا^٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا^٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ
 أَشْتَاتًا^٦ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ^٧ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 خَيْرًا يَرَهُ^٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^٩

آيَاتُهَا ١١ (١٠٠) سُورَةُ الْعُدَيْتِ مَكِّيَّةٌ (١٢) رُكُوعُهَا ١
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعُدَيْتِ صُبْحًا^١ فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا^٢ فَالْبُغَيْرِيَّتِ
 صُبْحًا^٣ فَاتَّزَنَ بِهِ نَقْعًا^٤ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا^٥
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ^٦ وَإِنَّهُ عَلَىٰ
 ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ^٧ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ^٨
 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ^٩ وَحُصِّلَ
 مَا فِي الصُّدُورِ^{١٠} إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ
 لَّخَبِيرٌ^{١١}

١١ آيَاتُهَا	(١٠١) سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٠)	رُكُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
١	الْقَارِعَةُ ۝	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝
٢	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝	وَتَكُونُ
٣	الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝	فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝
٤	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝	وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝
٥	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝	وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۝
٦	نَارٌ حَامِيَةٌ ۝	
٨ آيَاتُهَا ٨	(١٠٢) سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ (١٦)	رُكُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
١	الْهَلِكُمُ التَّكَاثُرُ ۝	حَتَّى زُرْتُمُ الْبُقَايِرَ ۝
٢	تَعْلَمُونَ ۝	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
٣	عِلْمَ الْيَقِينِ ۝	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝
٤	عَيْنَ الْيَقِينِ ۝	ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

أَيَاتُهَا ٣	سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ (١٣)	رُكُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ٥ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ٣		
أَيَاتُهَا ٩	سُورَةُ الْهُزْةِ مَكِّيَّةٌ (٣٢)	رُكُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الحُطْبَةِ ٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطْبَةُ ٥ نَارُ اللَّهِ المُّوقَدَةُ ٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئِدَةِ ٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ ٨ فِي عَمَدٍ مُّتَدَدَةٍ ٩		
أَيَاتُهَا ٥	سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ (١٩)	رُكُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ١ أَلَمْ يَجْعَلْ		

١٢

١٢

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِّلَ ۝

آيَاتُهَا ٢ (١٠٦) سُورَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ (٢٩) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۝ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن

جُوعٍ ۝ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۝

آيَاتُهَا ٤ (١٠٤) سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ (١٤) رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَسِيرِ ۝ قَوْلٌ

لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

أَيَّامُهَا ٣	(١٠٨) سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (١٥)	رُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢		
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٣		
أَيَّامُهَا ٤	(١٠٩) سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ (١٨)	رُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا		
أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا		
أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ ٦		
أَيَّامُهَا ٣	(١١٠) سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (١١٣)	رُوعُهَا ١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ١ وَرَأَيْتَ النَّاسَ		
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ		

وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ١٢

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ٥ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٤

آيَاتُهَا ٥

(١١١) سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ (٦)

رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ١ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا

كَسَبَ ٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَامْرَأَتُهُ ٤

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ٤

آيَاتُهَا ٢

(١١٢) سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ (٢٢)

رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ ٣ وَلَمْ

يُولَدْ ٤ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٥

آيَاتُهَا ٥

(١١٣) سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (٢٠)

رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَ

مَنْ شَرَّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ
فِي الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۙ

آيَاتُهَا ۶ (۱۱۳) سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ (۲۱) رُكُوعُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ إِلَهِ

النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِي

يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۙ

بِالْحَمْدِ

کتابناضعف الخطاطین خلیق الاسدی عقلم

وَعَارِخْتَمِ الْقُرْآنَ اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِي فِي قَبْرِي اللَّهُمَّ اَرْحَمْنِي
بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاَجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي
مِنْهُ مَا نَسِيتُ ۙ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ ۙ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ اِنَّاءَ اللَّيْلِ
ۙ اِنَّاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ ۙ آمين

ترجمہ: اے اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما، خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے
نواز دے قرآن کو میرے لئے رہنما اور پیشوا بنا اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا، اے الہی اس میں سے
جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو میں نہیں جانتا وہ مجھ کو سکھائے اور رات دن مجھے اسکی تلاوت
نصیب فرما، اور قیامت کے روز اسکو میرے لئے دلیل بنا لے سارے عالم کے پرورش کرنے والے۔ آمین

دُعَاءُ حِكْمَةِ الْقُرْآنِ

صَدَقَ اللهُ الْعَبْدُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ حِلَاوَةً وَبِكُلِّ
 جُزْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ جِزَاءً اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْأَلِفِ الْفَتْحَ وَبِالْبَاءِ بَرَكَةً وَبِالْتَّاءِ تَوْبَةً وَبِالْشَّاءِ ثَوَابًا وَ
 بِالْجِيمِ جَمَالًا وَبِالْحَاءِ حِكْمَةً وَبِالْخَاءِ خَيْرًا وَبِالدَّالِ دَلِيلًا وَبِالذَّالِ ذِكَاةً وَبِالرَّاءِ رَحْمَةً وَبِالزَّاءِ
 زَكَاةً وَبِالسِّينِ سَعَادَةً وَبِالنِّشِينِ شِفَاءً وَبِالصَّادِ صِدْقًا وَبِالضَّادِ ضِيَاءً وَبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَ
 بِالظَّاءِ ظَفْرًا وَبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَبِالْغَيْنِ غِنًى وَبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَبِالْقَافِ قُرْبَةً وَبِالْكَافِ كَرَامَةً
 وَبِاللَّامِ لُطْفًا وَبِالْمِيمِ مَوْعِظَةً وَبِالنُّونِ نُورًا وَبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَبِالْهَاءِ هِدَايَةً وَبِالْيَاءِ يَقِينًا .
 اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَارْفَعْنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنَّا قِرَاءَتَنَا وَتَجَاوِزَ
 عَنَّا مَا كَانَ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْ خَطَاٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ تَحْرِيفٍ كَلِمَةٍ عَنْ مَوَاضِعِهَا أَوْ تَقْدِيمٍ أَوْ
 تَأْخِيرٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ أَوْ تَأْوِيلٍ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ أَوْ رَيْبٍ أَوْ شَكٍّ أَوْ سَهْوٍ أَوْ سُوءِ
 الْحَاثِ أَوْ تَعْجِيلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَسَلٍ أَوْ سُرْعَةٍ أَوْ زَيْغٍ لِسَانٍ أَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وَقْفٍ
 أَوْ إِدْعَامٍ بِغَيْرِ مَدِّ عَمٍ أَوْ إِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ تَشْدِيدٍ أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ جُزْمٍ أَوْ إِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا
 كَتَبَهُ أَوْ قَلَّةٍ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ عِنْدَ آيَاتِ الرَّحْمَةِ وَآيَاتِ الْعَذَابِ فَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبْنَا مَعَ
 الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ نُوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ
 وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ . اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنِسًا وَ
 عَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَ إِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا
 فَاكْتُبْنَا عَلَى السَّامِ وَارْزُقْنَا آدَاءَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةَ وَالْبَشَارَةَ مِنَ
 الْإِيمَانِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ لُطْفِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا

دُعَاءِ ختم القرآن

اللہ بلند اور عظمت والے نے سچا کلام نازل فرمایا، اور اس کے رسول جو بہت ہی عزت اور اکرام والے نبی ہیں، انہوں نے سچ سچ ہم تک پہنچا دیا۔ اور ہم سب اس کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں اے ہمارے رب تو اس قرآن کی تلاوت ہم سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔

اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھا س عطا فرما۔ اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصہ میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ! ہر (الف) کے پڑھنے پر ہمیں الفت عطا فرما۔ اور (ب) کے سبب برکت عطا فرما۔ اور (ت) کے پڑھنے پر ہماری توبت قبول فرما۔ اور (ث) کے حرف پر ہمیں ثواب عطا فرما۔ اور (ج) کے پڑھنے پر ہمیں جمال عطا فرما۔ اور (ح) کی اداسیگی پر ہمیں حکمت عطا فرما۔ اور (خ) پڑھنے پر ہمیں خیر سے نواز دے، اور (د) کی اداسیگی پر ہمیں دلیل عطا فرما۔ اور حرف (ذ) کے پڑھنے پر ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، اور حرف (ر) پر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، اور (ز) پر ہمیں صاف ستھرا بن عطا کر، اور (س) سے ہم میں سعادت مندی پیدا فرما، اور (ش) کے پڑھنے پر شفا عطا فرما۔ اور (ص) پر ہمیں سچا صادق بنا دے، اور (ض) سے ہمیں روشنی میں چلا دے، اور (ط) سے ہمیں تازگی عطا فرما۔ اور (ظ) سے ہمیں کامیاب کر، اور (ع) سے ہمیں علم عطا فرما۔ اور (غ) سے مال کی کسادگی عطا فرما۔ اور (ف) سے فلاح اور فتح عطا فرما۔ اور (ق) سے ہمیں قربت عطا فرما۔ اور (ک) سے ہمیں اکرام کی زندگی عطا فرما۔ اور (ل) سے ہم پر لطف و عنایت کی بارش کر دے۔ اور (م) کے بدلے ہمیں اچھی نصیحت پر چلا دے۔ اور (ن) سے ہم پر اپنے نور کرنوں کا نزول فرما۔ اور حرف (و) سے ہمیں اتفاق و اتحاد کی برکت سے نواز دے۔ اور (ھ) کے بدلے ہمیں ہدایت پر چلا دے اور قرآن مجید میں ہر جگہ تلاوت میں آئے ہوئے (ی) کی برکت سے ہم کو یقین محکم عطا فرما۔

اے اللہ! ہمیں تو عظمت والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما اور ہر آیت کی دانشمندانہ نصیحت سے ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تلاوت قرآن کے موقع پر ہم سے جو خطا ہو گئی ہو اور بھول چوک ہوئی ہو اسے معاف کر دے، قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے معاف کر دے یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی، یا پڑھنے میں کمی ہوئی وہ سب ہم کو معاف فرما، اور تو نے جو کلام

نازل فرمایا اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم کو بچالے، ہر طرح کے شک، شبہ اور بھول سے ہمیں بچالے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آگیا ہو یا تلاوتِ قرآن میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو یا سستی کی ہو یا کہ تیزی سے گذر گئے ہوں یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو تو ایسی تمام بھول چوک سے درگزر فرما۔ پڑھتے وقت جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہوں یا الفاظ ملانے کے بجائے بغیر ملائے پڑھ لے ہوں، یا کوئی ایسا لفظ جو تونے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو اس کی بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔

یا اللہ! قرآن مجید میں کوئی (مد) کی جگہ ہو یا (تشدید) یا (غیر تشدید) کی جگہ ہو یا (جزم) ہو یا کوئی (زیر) (زبر) اور (پیش) اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا نہ ہو تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلب گار ہیں۔ رحمت کی آیات پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لے ہوں اور عذاب کی آیات پڑھنے پر ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگادے۔ ہمارے اخلاق میں قرآن کی تعلیم سے زینت پیدا فرما، یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما۔ اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تجھ سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے، اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کرنے، آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے اور آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دے اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے اور تمام بھلائیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے، صاف ستھری زبان سے، خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم مالا مال ہو جائیں اور اے اللہ تو نے درود و سلام کا تحفہ حضرت محمد ﷺ کو عطا فرمایا ہے جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور تیرے لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرنے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے، اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ حضرت محمد ﷺ پر، ان کی ازواجِ مطہرات پر، ان کی اولاد پر اور ان کے تمام اصحابِ کرام تک پہنچا دے۔ سلام پر سلام اور بہت بہت بہت سلام۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

رُمُوزِ اَوْقَافِ قُرْآنِ مَجِيدِ

ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ۔ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوتی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں جن کو رُموزِ اَوْقَافِ قُرْآنِ مَجِيدِ کہتے ہیں ضرور ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رُموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں۔

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں گولت سے بوجہ صورت کا لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقفِ تام کی علامت ہے۔ یعنی اس پر ٹھہرنا چاہئے۔ اب کا تو نہیں لکھی جاتی چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔

○ یہ علامت وقفِ لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہئے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہئے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو۔ مت بیٹھو۔ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقفِ مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہئے۔ مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا۔ اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔

ص علامت وقف مخصص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہئے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے معلوم رہے کہ ص پر ملا کر پڑھنا آ کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔

صلے اَوْصَلُ اُولٰی کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق قِيلَ عَلَيْهِ اَلْوَقْفُ کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہئے۔

صل قَدْ وُصِلُ کی علامت ہے۔ یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔

قف یہ لفظ قَفْتُ ہے جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

س یا سکتہ سکتے کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہئے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے۔ یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہئے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔

سکتے اور وقفے میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے۔ وقفے میں زیادہ۔

لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے۔ اور کہیں عبارت کے

اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہئے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے بعض کے نزدیک

ٹھہرنا چاہئے۔ بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہئے لیکن ٹھہرنا چاہئے یا نہ ٹھہرنا چاہئے اس مطلب

میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہئے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔

ك كَذٰلِكَ کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جاتے۔

مفید باتیں

- قرآن کا حکم ہے۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ لہذا بغیر وضو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں۔
- ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لہذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ضرور پڑھ لیں۔
- مستحب یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا بِسْمِ اللّٰهِ كَبْرًا کے بعد الحمد شریف (سورۃ فاتحہ) بھی پڑھ لیں۔
- صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم خوش آوازی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا ہر حرف کو صاف صاف ادا کر کے پڑھیں۔ کوشش کریں کہ آپ ج۔ ز۔ ظ اور ض، وغیرہ کی بھی ادائیگی اور اسکے آپس میں فرق کے ساتھ پڑھ سکیں۔
- چونکہ یہ کلام الہی ہے لہذا اس کا ادب و احترام بھی اس کے حق کے مطابق کریں۔
- ہر چیز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرے، لہذا حضرات صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی چند منٹ ہی سہی تلاوت کے لئے ہر روز خاص کر لیں۔ یاد رہے کہ یہی چند منٹ ہمیں کام آئیں گے۔
- حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل نہایت محبوب ہے کہ کلام اللہ شریف ختم ہونے پر فوراً دوسرا شروع کر دیا جائے، اور اس دوسرے کو هُمْ اَلْمُقَدِّحُونَ تک پڑھیں۔
- لہذا ہر ختم کے بعد شروع بھی فوراً کر دیں پھر صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ پڑھ کر ختم قرآن کی دعا پڑھیں۔
- حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ (اتقان) لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجتوں کے ساتھ تمام مومنین و مومنات کی صلاح و فلاح کیلئے بھی دعا کریں۔
- اگر کسی خاص مرحوم کو ایصالِ ثواب کرنا ہو تو کہیں، اے اللہ ہم نے جو تلاوت کی ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف کر دے اور اس تلاوت کا ثواب آقاتے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کو پہنچا کر صحابہ کرام کو اور کل امت محمدیہ مومنین و مومنات کو بالخصوص (جن کو بھیجنا ہوا ان کا نام لیں) کو ثواب ملے، اور دعا کے آخر میں جن لوگوں نے جن جن طریقوں سے اس کی اشاعت میں حصہ لیا ہے ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں کو تا ہیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور سب کی خدمات کو قبول فرما کر اسے تمام لوگوں کیلئے نجات کا ذریعہ بناتے۔ (آمین)

ضروری معلومات احتیاط کے بارے میں

قارئین کرام! ایسے تو پورے قرآن مجید کو اس کے اعراب، تجوید اور اوقات کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بالخصوص قرآن مجید کے ان بیس مقامات پر احتیاط اور بھی ضروری ہے جہاں بے احتیاطی سے بغیر سمجھے کلمہ کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ زیر زبر اور پیش میں رد و بدل کر دینے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اور جان بوجھ کر پڑھنے سے گناہ کبیرہ بلکہ کفر تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور قرأتِ صلوٰۃ میں تیس بدلی واقع ہونے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا اس نسخہ میں ایسے مقامات کے اوپر کبیر کھینچ کر ہم نے حاشیہ پر احتیاط لکھ دیا ہے۔ اور مزید آپ کی معلومت کیلئے ذیل میں وہ بیس مقامات معنی کے ساتھ درج ہیں۔

نمبر شمار	مقام	صحیح مع ترجمہ	غلط مع ترجمہ
۱	سورة الفاتحة آية ۵	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں	اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لفظ مہل ہو جاتا ہے اور توحید کا مفہوم باقی نہیں رہتا۔
۲	سورة الفاتحة آية ۵	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ آپ نے ان پر انعام کیا	اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں نے ان پر انعام کیا
۳	سورة البقرة آية ۱۲۴	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم کو اسکے رب نے	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم نے اپنے رب کو
۴	سورة البقرة آية ۲۵۱	وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو	وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ اور مار ڈالا داؤد کو جالوت نے
۵	سورة البقرة آية ۲۵۵	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں	اللَّهُ (بالمد) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیا اللہ اسکے سوا کوئی معبود نہیں
۶	سورة البقرة آية ۲۶۱	وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے	وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اور اللہ بڑھا دیا جاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے
۷	سورة النساء آية ۱۶۵	رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈرسانے والے	رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بھیجے پیغمبر خوشخبری اور ڈرسانے والے
۸	سورة التوبة آية ۳	أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ - بے شک اللہ الگ ہے مشرکین سے اور اس کا رسول	أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ - بے شک اللہ الگ ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے (نحو ذالک)

مقام	صحیح مع ترجمہ	غلط مع ترجمہ	نمبر شمار
سورة بنی اسرائیل ایتہ ۱۵	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اور ہم نہیں ڈالتے بلا	وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اور ہم نہیں ڈالے جاتے بلا (نعوذ باللہ)	۹
سورة طہ ایتہ ۱۲	وَعَطَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور حکم مالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بھگے	وَعَطَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ اور ان کے پروردگار نے آدم ہی کی نافرمانی کی پھر وہ راہ سے بھگے (نعوذ باللہ)	۱۰
سورة الانبیاء ایتہ ۸۷	إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں تھا گنہگاروں میں سے	إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ آپ تھے گنہگاروں میں سے (نعوذ باللہ)	۱۱
سورة الشعراء ایتہ ۱۹	لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا	لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ تو ہو ڈر سناتے جانہوالوں میں	۱۲
سورة فاطر ایتہ ۲۸	يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ سمجھدار بندے ہی ڈرتے ہیں	يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللہ سے ان کے سمجھدار بندوں سے (نعوذ باللہ)	۱۳
سورة الصافات ایتہ ۷	مُنذِرِينَ ڈرانے والے	مُنذِرِينَ ڈرائے جانے والے	۱۴
سورة فتح ایتہ ۲	صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا	صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا اس کے رسول نے اللہ کو ہی سچا خواب دکھلایا (نعوذ باللہ)	۱۵
سورة حشر ایتہ ۲۴	الْمُصَوِّرُ صورت بنانے والا	الْمُصَوِّرُ صورت بنایا ہوا	۱۶
سورة حاقہ ایتہ ۳	إِلَّا الْخَاطِئُونَ مگر وہی گنہگار	إِلَّا الْخَاطِئُونَ مگر وہی گناہ کرایا جانے والا	۱۷
سورة المزمل ایتہ ۱۶	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا	فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ پھر کہا نہ مانا رسول نے فرعون ہی کا	۱۸
سورة المرسلات ایتہ ۲	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ بے شک متقین سایہ میں ہیں اور نہروں میں	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ بے شک متقین گمراہی میں ہیں اور نہروں میں	۱۹
سورة النزع ایتہ ۲۵	أَنْتَ مُنذِرٌ آپ ڈر سنانے والے ہیں	أَنْتَ مُنذِرٌ آپ ڈر سناتے جانے والے ہیں	۲۰

قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

شمار پاره	نمبر صفحہ	نام سورۃ	شمار سورۃ	شمار پاره	نمبر صفحہ	نام سورۃ	شمار سورۃ
۲۱-۲۰	۵۵۲	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۲۹	۱	۲	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱
۲۱	۵۶۲	سُورَةُ الرُّومِ	۳۰	۳-۲-۱	۳	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲
۲۱	۵۷۱	سُورَةُ لُقْمَانَ	۳۱	۴-۳	۶۸	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳
۲۱	۵۷۷	سُورَةُ السَّجْدَةِ	۳۲	۶-۵-۴	۱۰۶	سُورَةُ النَّسَاءِ	۴
۲۲-۲۱	۵۸۱	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۳۳	۷-۶	۱۴۷	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۵
۲۲	۵۹۵	سُورَةُ سَبَأِ	۳۴	۸-۷	۱۷۷	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶
۲۲	۶۰۳	سُورَةُ فَاطِرِ	۳۵	۹-۸	۲۰۹	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۷
۲۳-۲۲	۶۱۱	سُورَةُ يَسِّ	۳۶	۱۰-۹	۲۴۶	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۸
۲۳	۶۱۸	سُورَةُ الصَّافَّاتِ	۳۷	۱۱-۱۰	۲۶۰	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۹
۲۳	۶۲۸	سُورَةُ صِ	۳۸	۱۱	۲۸۸	سُورَةُ يُونُسَ	۱۰
۲۴-۲۳	۶۳۵	سُورَةُ الرَّمْرِ	۳۹	۱۲-۱۱	۳۰۸	سُورَةُ هُودَ	۱۱
۲۴	۶۴۷	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۴۰	۱۳-۱۲	۳۲۸	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۲
۲۵-۲۴	۶۵۹	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ	۴۱	۱۳	۳۴۶	سُورَةُ الرَّعْدِ	۱۳
۲۵	۶۶۸	سُورَةُ الشُّورَى	۴۲	۱۳	۳۵۵	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ	۱۴
۲۵	۶۷۷	سُورَةُ الزُّخْرُفِ	۴۳	۱۴-۱۳	۳۶۴	سُورَةُ الْحَجَرِ	۱۵
۲۵	۶۸۶	سُورَةُ الدَّحَّانِ	۴۴	۱۴	۳۷۲	سُورَةُ النَّحْلِ	۱۶
۲۵	۶۹۱	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۴۵	۱۵	۳۹۳	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۱۷
۲۶	۶۹۷	سُورَةُ الْأَحْقَافِ	۴۶	۱۶-۱۵	۴۰۸	سُورَةُ الْكَافِ	۱۸
۲۶	۷۰۴	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۴۷	۱۶	۴۲۵	سُورَةُ مَرْيَمَ	۱۹
۲۶	۷۱۰	سُورَةُ الْفَتْحِ	۴۸	۱۶	۴۳۵	سُورَةُ طهَ	۲۰
۲۶	۷۱۶	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۴۹	۱۷	۴۴۹	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۲۱
۲۶	۷۲۱	سُورَةُ وَ	۵۰	۱۷	۴۶۲	سُورَةُ الْحَاجِّ	۲۲
۲۷-۲۶	۷۲۵	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۵۱	۱۸	۴۷۷	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۲۳
۲۷	۷۲۹	سُورَةُ الطُّورِ	۵۲	۱۸	۴۸۷	سُورَةُ النَّوْرِ	۲۴
۲۷	۷۳۲	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۳	۱۹-۱۸	۵۰۱	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۲۵
۲۷	۷۳۶	سُورَةُ الْقَمَرِ	۵۴	۱۹	۵۱۱	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۲۶
۲۷	۷۴۰	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	۵۵	۲۰-۱۹	۵۲۵	سُورَةُ النَّحْلِ	۲۷
۲۷	۷۴۵	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۵۶	۲۰	۵۳۵	سُورَةُ الْقَصَصِ	۲۸

شمار پاره	نمبر صفحه	نام سوره	شمار سوره	شمار پاره	نمبر صفحه	نام سوره	شمار سوره
۳۰	۸۳۰	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸۶	۲۷	۷۵۰	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۵۷
۳۰	۸۳۱	سُورَةُ الْأَعْلَى	۸۷	۲۸	۷۵۷	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ	۵۸
۳۰	۸۳۲	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸۸	۲۸	۷۶۱	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۹
۳۰	۸۳۳	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۹	۲۸	۷۶۶	سُورَةُ الْمُمتَحِنَةِ	۶۰
۳۰	۸۳۵	سُورَةُ الْبَكَّةِ	۹۰	۲۸	۷۷۰	سُورَةُ الصَّفِّ	۶۱
۳۰	۸۳۶	سُورَةُ الشَّمْسِ	۹۱	۲۸	۷۷۳	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۶۲
۳۰	۸۳۷	سُورَةُ اللَّيْلِ	۹۲	۲۸	۷۷۵	سُورَةُ الْمُتَفِقُونَ	۶۳
۳۰	۸۳۸	سُورَةُ الضُّحَى	۹۳	۲۸	۷۷۷	سُورَةُ التَّغَابُنِ	۶۴
۳۰	۸۳۸	سُورَةُ الْأَنْشُرَاحِ	۹۴	۲۸	۷۸۰	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۶۵
۳۰	۸۳۹	سُورَةُ التِّينِ	۹۵	۲۸	۷۸۳	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	۶۶
۳۰	۸۳۹	سُورَةُ الْعَلَقِ	۹۶	۲۹	۷۸۷	سُورَةُ الْمُلْكِ	۶۷
۳۰	۸۴۰	سُورَةُ الْقَدْرِ	۹۷	۲۹	۷۹۰	سُورَةُ الْقَلَمِ	۶۸
۳۰	۸۴۰	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ	۹۸	۲۹	۷۹۴	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۶۹
۳۰	۸۴۱	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۹۹	۲۹	۷۹۷	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۷۰
۳۰	۸۴۲	سُورَةُ الْعَادِيَاتِ	۱۰۰	۲۹	۸۰۰	سُورَةُ نُوحٍ	۷۱
۳۰	۸۴۳	سُورَةُ الْفَارِعَةِ	۱۰۱	۲۹	۸۰۳	سُورَةُ الْجِنِّ	۷۲
۳۰	۸۴۳	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۱۰۲	۲۹	۸۰۶	سُورَةُ الْمَزْمَلِ	۷۳
۳۰	۸۴۴	سُورَةُ الْعَصْرِ	۱۰۳	۲۹	۸۰۸	سُورَةُ الْمَدْيَنَةِ	۷۴
۳۰	۸۴۴	سُورَةُ الْهَمَزِ	۱۰۴	۲۹	۸۱۱	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۷۵
۳۰	۸۴۴	سُورَةُ الْفِيلِ	۱۰۵	۲۹	۸۱۳	سُورَةُ الدَّهْرِ	۷۶
۳۰	۸۴۵	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۱۰۶	۲۹	۸۱۶	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۷۷
۳۰	۸۴۵	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۱۰۷	۳۰	۸۱۹	سُورَةُ النَّبَاِ	۷۸
۳۰	۸۴۶	سُورَةُ الْكَوثرِ	۱۰۸	۳۰	۸۲۰	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۷۹
۳۰	۸۴۶	سُورَةُ الْكَافِرُونَ	۱۰۹	۳۰	۸۲۲	سُورَةُ عَبَسَ	۸۰
۳۰	۸۴۶	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۱۰	۳۰	۸۲۴	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸۱
۳۰	۸۴۷	سُورَةُ اللَّهَبِ	۱۱۱	۳۰	۸۲۵	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸۲
۳۰	۸۴۷	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	۱۱۲	۳۰	۸۲۶	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸۳
۳۰	۸۴۷	سُورَةُ الْفَلَقِ	۱۱۳	۳۰	۸۲۸	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸۴
۳۰	۸۴۸	سُورَةُ النَّاسِ	۱۱۴	۳۰	۸۲۹	سُورَةُ الْبُرُوجِ	۸۵

قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست باعتبار حروف تہجی

شمار	سورة کا نام اور نمبر	شمار	سورة کا نام اور نمبر	شمار	سورة کا نام اور نمبر
	س		ج		أ
۳۲	السجدة	۱	الجاثية	۱	أل عمران
۳۴	سبا	۲	الجمعة	۲	الانعام
	ش		الجن	۳	الاعراف
۲۶	الشعراء	۱	ح	۸	الانفال
۲۴	الشورى	۲	الحجر	۱۲	ابراهيم
۹۱	الشمس	۳	الحج	۱۴	الاسراء
	ص		حُم السجدة	۲۱	الانبیاء
۳۷	الصفات	۱	الحجرات	۳۳	الاحزاب
۳۸	ص	۲	الحديد	۲۶	الاحقاف
۶۱	الصف	۳	الحشر	۸۲	الانفطار
	ض		الحاقة	۸۴	الانشقاق
۹۳	الضحى	۱	الدخان	۸۷	الاعلیٰ
	ط		الدهر	۹۲	الانشراح
۲۰	طہ	۱	ذ	۱۱۲	الاخلاص
۵۲	الطور	۲	الذاريات		ب
۶۵	الطلاق	۳	ر	۲	البقرة
۸۶	الطارق	۴	الرعد	۸۵	البروج
	ع		الروم	۹۰	البلد
۲۹	العنكبوت	۱	الرحمن	۹۸	البينة
۸۰	عبس	۲	ز		ت
۹۶	العلق	۳	الزمر	۹	التوبة
۱۰۰	العاديات	۴	الزخرف	۶۲	التغابن
۱۰۳	العصر	۵	الزلزال	۶۶	التحریم
				۸۱	التكوير
				۹۵	التين
				۱۰۲	التكاثر

قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست باعتبار حروف تہجی

شمار	سورة کا نام اور نمبر	شمار	سورة کا نام اور نمبر	شمار	سورة کا نام اور نمبر	شمار	سورة کا نام اور نمبر
	ن		ل		غ		
۴	النساء	۱	لقمان	۱	الغاشية	۱	۸۸
۱۶	النحل	۲	اللیل	۲	ف		
۲۴	النور	۳	اللب	۳	الفاتحة	۱	
۲۷	النمل	۴	م		الفرقان	۲۵	۲
۵۳	النجم	۵			فاطر	۳۵	۳
۷۱	نوح	۶	المائدة	۱	الفتح	۲۸	۴
۷۸	النبأ	۷	مریم	۲	الفجر	۸۹	۵
۷۹	النازعات	۸	المؤمنون	۳	الفیل	۱۰۵	۶
۱۱۰	النصر	۹	المؤمن	۴	الفلق	۱۱۳	۷
۱۱۴	الناس	۱۰	محمد	۵	ق		
	و		المجادلة	۶	القصص	۲۸	۱
۵۶	الواقعة	۱	المتحنة	۷	ق	۵۰	۲
	هـ		المنافقون	۸	القمر	۵۴	۳
۱۱	هود	۱	الملك	۹	القلم	۶۸	۴
۱۰۴	الهمزة	۲	المعارج	۱۰	القيامة	۷۵	۵
	ی		المزمل	۱۱	القدر	۹۷	۶
۱۰	یونس	۱	المدثر	۱۲	القارعة	۱۰۱	۷
۱۲	یوسف	۲	المرسلات	۱۳	قریش	۱۰۶	۸
۳۶	یسر	۳	المطففين	۱۴	ک		
			الماعون	۱۵	الكهف	۱۸	۱
					الکوثر	۱۰۸	۲
					الکافرون	۱۰۹	۳

مَوْلَانَا قَارِئِي، وَلِيٍّ مِّنْ اللّٰهِ

خطیب وامام ”مسجد النور“ ڈونگری، بمبئی ۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَہٗ لَخٰفِضُوْنَ

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات، حروف، اعراب، رسم الخط اور تفسیر و تلاوت وغیرہ کی حفاظت اس آیت کریمہ کے ذیل میں داخل ہے اور قرآن مجید کی چودہ سو سالہ تاریخ اس کی شاہد بھی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیدا فرماتے رہے ہیں جنہوں نے معانی و مطالب اور اعراب و رسم الخط وغیرہ کی ہر پہلو سے قرآن کریم کی خدمت کی اور اس معجزہ الہی کی ہمہ گیر خدمت کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے، فی زمانہ ہندوپاک کے مطبوعہ قرآن مجید میں ایک عرصہ سے ایک ہی نسخہ مروج ہے جسے ناشران قرآن مجید عکس لے کر شائع کرتے رہتے ہیں نتیجتاً اعراب و رسم الخط کی جو غلطی ایک میں تھی وہ سیکڑوں کلام پاک میں ہوتی گئی اس جذبہ تاثر نے ایک اہل خیر کو اس طرف متوجہ کیا کہ کلام اللہ کی از سر نو کتابت کرائی جائے چنانچہ انہوں نے ایک کثیر رقم خرچ کر کے اس کی کتابت کرائی اور اسکی تصحیح کے لئے مختلف مکتبہ فکر کے مدارس میں وہاں کے قرار اور حفاظ کی خدمات حاصل کیں اور لوگوں نے جانفشانی کے ساتھ اسکی تصحیح کی اور رسم الخط اور اعراب کی بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کی، بشری کوششوں کی حد تک یہ نسخہ اس زمانے کے نسخوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے۔ پھر بھی انسان بشر ہے غلطی ہو سکتی ہے اگر کسی کو کوئی غلطی معلوم ہو تو براہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ کی طباعت میں اس کو درست کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن شریف میں جس طرح کی بھی مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے اور اس قرآن شریف کو قبولیت عامہ عطا فرمائے۔ آمین

نقطہ ولی السید (رحمۃ اللہ علیہ)
۳۰ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ
۲۷/۱۱/۲۰۰۰